



جب تم نماز پڑھو، تو اپنی صفیں درست کر لو۔ پھر تم میں سے ایک شخص تمہارا امام بن کر نماز پڑھائے۔ چنانچہ جب وہ تکبیر کہے، تو تم تکبیر کہو

جَطَّان بن عبداللہ رَفَاشی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ قعدے میں تھے، تو پیچھے نماز پڑھ رہے ایک شخص نے کہا: نماز کو بھلائی اور زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا۔ ان کا بیان ہے کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی نماز پوری ہو گئی اور سلام پھیر چکے، تو لوگوں کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا: تم میں سے کس نے یہ بات کہی ہے؟ جب کسی نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے پھر پوچھا: تم میں سے کس نے یہ بات کہی ہے؟ پھر جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو فرمایا: اے حطان! شاید یہ بات تم نے کہی ہے! انہوں نے کہا: میں نے نہیں کہی۔ وہ بے بس مجھ سے اس بات کا ڈر بھی تھا کہ اس کی وجہ سے آپ مجھ سے ہی ڈانٹیں گے لیکن اتنا سننے کے بعد وہاں موجود ایک شخص نے کہا: یہ بات میں نے کہی ہے اور میرا ارادہ اچھا ہی تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم نے اس بات کو تمہیں نماز میں کیسے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کیا اور ہمیں ہماری نماز بتائی اور ہماری سنت سکھائی۔ آپ نے فرمایا: "جب تم نماز پڑھو، تو اپنی صفیں درست کر لو۔ پھر تم میں سے ایک شخص تمہارا امام بن کر نماز پڑھائے۔ چنانچہ جب وہ تکبیر کہے، تو تم تکبیر کہو اور جب وہ {غَيْرِ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [سورہ فاتحہ: 7] کہے، تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے، تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھے گا۔" اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تمہارے رکوع میں جانے میں جو لمحہ بھر کی دیر ہوگی، وہ رکوع سے اٹھنے میں ہونے والی لمحہ بھر کی دیر سے پوری ہو جائے گی۔ اور جب امام "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" کہے، تو تم "اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" کہو، اللہ تمہاری دعا سن لے گا اور جب وہ تکبیر کہے اور سجدے میں جائے، تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدے میں جاؤ۔ امام تم سے پہلے سجدے میں جائے گا اور تم سے پہلے اٹھے گا۔" اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تمہارے سجدے میں جانے میں جو لمحہ بھر کی دیر ہوگی، وہ سجدے سے اٹھنے میں ہونے والی لمحہ بھر کی دیر سے پوری ہو جائے گی۔ اور جب جلسہ میں بیٹھے، تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھو: النَّجِيَّاتِ الطَّيِّبَاتِ الصَّلَوَاتِ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" [صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک نماز پڑھی۔ دوران نماز جب وہ اس قعدے میں تھے، جس میں تشہید پڑھا جاتا ہے، تو پیچھے نماز پڑھ رہے ایک شخص نے کہا کہ قرآن میں نماز کا ذکر بھلائی اور زکوٰۃ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لہذا جب نماز ختم ہو گئی، تو وہ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے کہا ہے کہ قرآن میں نماز کا ذکر بھلائی اور زکوٰۃ کے ساتھ کیا گیا ہے؟ جب سب لوگ خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو دوبارہ سوال کیا لیکن جب پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حطان سے کہا کہ اے حطان! شاید تم نے یہ بات کہی ہے؟ دراصل انہوں نے حطان سے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ ایک دلیر انسان تھے، ان سے ان کے گہرے تعلقات اور بڑی قربت تھی، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ اس الزام سے اذیت محسوس کرتے۔ ساتھ ہی پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ دوران نماز گفتگو کرنے والا سامنے آکر اعتراف کر لے۔ چنانچہ حطان نے یہ صاف کر دیا کہ یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے اور

بتایا کہ مجھ پر اللہ کی سزا اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ سمجھ کر مجھ کی کو ڈانٹیں گے کہ یہ بات میں نہ کہی
 اتنا سننے کے بعد وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ یہ بات میں نہ کہی اور میرا مقصد کچھ برا نہیں تھا
 لہذا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیا کچھ
 کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے؟ یہ دراصل ایک طرح سے اس کی تردید تھی۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ
 ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان سے مخاطب ہوئے اور ان کو ان کی شریعت اور نماز سکھائی۔ اس
 دوران آپ نے فرمایا: جب تم نماز پڑھو، تو اپنی صفیں درست اور سیدھی کر لیا کرو۔ پھر ایک شخص امام بن کر
 لوگوں کو نماز پڑھائے چنانچہ جب امام تکبیر احرام کے، تو تم بھی اسی کی طرح تکبیر احرام کے اور جب وہ
 سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے {غیر المغضوب علیہم ولا الضالین} [سورہ فاتحہ: 7] تک پہنچے، تو تم آمین کے ہو جب
 تم ایسا کرو گے، تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ پھر جب امام تکبیر کے اور رکوع میں جائے، تو تم بھی تکبیر کے
 اور رکوع میں جاؤ امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھے گا لہذا تم اس سے آگے نہ
 بڑھو۔ اس دوران تمہارے رکوع میں جانے میں جو ایک لمحہ کی دیر ہوگی، وہ تمہارے رکوع سے اٹھنے میں ہونے
 والی ایک لمحہ کی دیر سے پوری ہو جائے گی اور اس طرح تمہارے رکوع کی لمبائی امام کے رکوع کے لمبائی کے
 برابر ہو جائے گی۔ پھر جب امام "سمع الله لمن حمده" کہے، تو تم "اللهم ربنا لك الحمد" کے ہو جب نمازی ایسا
 کہتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا اور قول کو قبول فرماتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی کہا ہے کہ
 اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر جب امام تکبیر کے اور سجدے میں جائے، تو مقتدیوں کو
 بھی تکبیر کہنا اور سجدے میں جانا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھ کر امام مقتدیوں سے پہلے سجدے میں جائے گا
 اور ان سے پہلے سجدے سے اٹھے گا۔ اس طرح ان کے سجدے میں جانے میں جو ایک لمحہ کی دیر ہوگی، وہ ان کے
 سجدے سے اٹھنے میں ہونے والی لمحہ بھر کی دیر سے پوری ہو جائے گی اور اس طرح ان کے سجدے کی لمبائی
 امام کے سجدے کے برابر ہو جائے گی۔ پھر جب تشدد کے لیے بیٹھے، تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھے: "التحيات
 الطيبات الصلوات لله" ملک، بقا اور عظمت یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح پانچوں نمازیں بھی اللہ
 کے لیے ہیں۔ "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" اس لیے اللہ سے
 رعب، آفت، نقص اور فساد سے سلامتی مانگو۔ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو خاص طور سے
 سلام بھیجتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سلام بھیجتے ہیں، پھر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے اللہ کے
 نیک بندوں کو سلام بھیجتے ہیں، پھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے
 اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65097>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

